

نوع الوثيقة : أوراق يدیز الخاصة (Y. A. Hus.)
رقمها : ٤٦٢/١٥٢
تاریخها : ٢٧ رمضان ١٢٢١ هـ
 محل وجودها : الأرشيف العثماني بإستانبول

مذكرة الصدر الأعظم فريد باشا إلى السلطان للعرض عليه
لجوء سعدون إلى الجهرة مصيف مبارك الصباح، بعد ارتکابه
جرائم القتل والنهب طوال عشرين يوماً بين مدينة الزبير
والبصرة، وتعذر سوق قوة عسكرية عليه لذلك.
ومع المذكرة وثيقة تتعلق بذلك.


سدنه اور بین حد عذت و منع تقادت ایہ سجا سینت درستہ عجت و مارکٹ افسے تقاضا
او رفته همارہ بیوی زادہ کرنا کردہ میں کوئی نہیں کر دیجہ ایہ زیر آرہ منع عذت
اینکہ صدھ کوتی اور جمیں سامت صافہ دیواریں ایسا ہاتھ ضیغی اور اسی ہاتھ نہیں خلی
برنیتیہ جبکہ اور اسے ہند سوچنے سائب اور اسے حفظ کر سدنه میں ان اہم کھنڈ کے اور سدھ کے
خلی و مزعل پاسداریں اور بوزیر آئی ایہ قوہ تقاضیہ قوانین اس سبقت و بھرہ قبیلہ کا نبی وہ
ارسید تھا کہ سونہ اور نامہ بیان فائدہ و انکھڑہ ہند میں طلبہ سپرینت بھو
طیقیہ شرکت نہ رہے کھداں بخپش کریں کہ خوبی کو طلبہ ہے انکھڑہ زخم طرفیہ مام
اویں بند راست سماں ایسا راستہ تھا کہ دل رکیہ واقعی اور دل ہمارہ سبب دیانت
ھمارہ نہ ائمہ تقدیما تا سامنہ تھا تقیم خلق سدنه کوتیہ دیواریں ایسا ہاتھ برلنیتھے حد قدر
عزمیہ سماں ویکھدہ صدھ سری اپنے بیوی محقق رائے ہے وکالتہ سری و انکھڑہ ہند میں
طلبہ سپرینت سماں سے ریاستہ بخدا و حکیمیت عزمیہ ہے رسید زادہ سویں کر بدل
دھارنہ قدر اسے لکھتے کلم فرمادیں و مددوہ ایہ عزمیت رضا و جنگوں کے پس
یہ خپڑے ایں حال مکور ہے عزمیہ حرم دھیا طلاق غریضہ بھی اور تھیہ تسبیح لازم
جیسیہ منع عزمیہ ایسا ہے ایسا ہے خارجہ نظر سے صدھ نہیں اور سببیں سدھ نہیں خلی
رضھ طرف داری سعدیہ تینفات مقاضی ایسا ہے اور سببیں سدھ صدھ کی ہے عزمیہ خپڑے

ضد اعظم
نے

متاد افسوس / مصلحت / معاشر

Y.A-Hus

۴۶۲/۱۵۲



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا سُبْحَانَهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا عَزَّوَجَلَّ

لِكُلِّ قَلْبٍ

سُبْحَانَهُ

بَعْدَ وَرَبِّهِ دُخُولُهُ سُبْحَانَهُ

۴

عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ أَوْ لِبُوكِي مَحْمُودُ عَزِيزُ دُخُولُهُ سُبْحَانَهُ دُخُولُهُ
الْمُكَلَّمِ حَقْنَهُ سُبْحَانَهُ اِرَادَهُ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ بَكْرَهُ تَوْنَدَهُ بَرَى بَصَرَهُ اِيمَانَهُ
بَشَرَهُ آرَادَهُ غَرَوزَهُ اِيتَّدَهُ هَدَهُ تَوْسَهُ اِدَعَهُ عَيْنَهُ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ
صَبَقَهُ كَارِهُ الْجَهَرَهُ نَامَ حَمْدَهُ اِيجَاهُ اِورَادَهُ شَدَّ سُوقَهُ سُبْحَانَهُ فَوَاهَهُ
اِنَّ اِيجَاهُ كَلْمَهُ اِولَاهُ سُبْحَانَهُ فَالِّي وَرَغَلُ يَا شَارَ اِوجَاهُ بُوزَفَهُ اِنَّهُ سُوقَهُ اِيجَاهُ
مَفْتَهُ دَبَرَهُ قَرْبَهُ اِبَرَهُ اِلَيْهِ سُفَاجَهُ دَهُ قَوَهُ كَهُ سُوقَهُ اِورَضَهُ خَالِ فَالِّي تَقْدَهُ
وَانْهَيَتْ لَهُ رَاهَهُ بَجْرَهُ هَسَانَهُ وَالِّي سَاهَهُ بَهَرَهُ بُوسِرَهُ مَفَاقِهُ دَبَرَهُ
طَهَهُ كَرْبَدَهُ وَنَحْفَهُ دَهَهُ طَهُولَهُ كَهْفَهُ بَعْدَارَ اِنْقَيَهُ رَحَاهُ شَفَاهُ بَيَاهُ اِنْقَعَهُ كَرْبَدَهُ
فَوَلَرَهُ سَنَهُ مَكْنَى اِجَادَهُ اِيجَادَهُ اِلِّي بَعْدَهُ اِيجَادَهُ لَازَمَهُ جَهَهُ جَهَنَّمَهُ بُولَنَفَهُ
بَجَهُ بَكَعَهُ دَرَزَهُ حَرَكَتْ اِنْكَلَمَهُ اِيجَاهُ اِيجَاهُ جَهَهُ مَابَهُهُ بَرَهُ بَرَهُ بَعْذَهُ بَهَيَهُ كَسَهُ
وَاسْطَبَهُ عَصَهُ وَاسْتَدَاهُ قَبْنَفَهُ مَوْضَهُ فَهَاتَهُ كَهْمَوْلَهُ كَهْمَوْلَهُ اِيجَاهُ اِرْدَوْسَهُ وَنَفَادَهُ
دَاهُ وَكَبَهُ فَهَنَهُ

Y.A.HUC
462/152

